

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

السلیمین" (رحمۃ) بخاری و مسلم کی اس (آنے والی) حدیث کو اپنے حق میں پیش فرماتے ہیں جبکہ ہمیں ان کے اس فہم و استفادہ سے، اس طرح کے استدلال سے اختلاف ہے۔ براہ مہربانی خیر القرون کے فہم و استفادہ سے مستفیض فرمائیں۔
زیر تحت باب کیت الامراذالم یکن جماعہ میں حدیث نمبر 1968.....

(ج 7793)

مسلم، کتاب الباری:

(ج 1375)

تتاظر میں قرون ثلاثہ کے حوالے سے مکمل راہنمائی فرمائیں کہ "جماعت المسلمین" (رحمۃ) اس بنیاد پر:

1- سب لوگوں کو گمراہ اور اپنے آپ کو ملاحیح سمجھتے ہیں۔

2- (ج 1) میں ملاحظہ فرمائیے کہ 474، 475، 476، 477، 478، 479، 480، 481، 482، 483، 484، 485، 486، 487، 488، 489، 490، 491، 492، 493، 494، 495، 496، 497، 498، 499، 500، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 507، 508، 509، 510، 511، 512، 513، 514، 515، 516، 517، 518، 519، 520، 521، 522، 523، 524، 525، 526، 527، 528، 529، 530، 531، 532، 533، 534، 535، 536، 537، 538، 539، 540، 541، 542، 543، 544، 545، 546، 547، 548، 549، 550، 551، 552، 553، 554، 555، 556، 557، 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، 567، 568، 569، 570، 571، 572، 573، 574، 575، 576، 577، 578، 579، 580، 581، 582، 583، 584، 585، 586، 587، 588، 589، 590، 591، 592، 593، 594، 595، 596، 597، 598، 599، 600، 601، 602، 603، 604، 605، 606، 607، 608، 609، 610، 611، 612، 613، 614، 615، 616، 617، 618، 619، 620، 621، 622، 623، 624، 625، 626، 627، 628، 629، 630، 631، 632، 633، 634، 635، 636، 637، 638، 639، 640، 641، 642، 643، 644، 645، 646، 647، 648، 649، 650، 651، 652، 653، 654، 655، 656، 657، 658، 659، 660، 661، 662، 663، 664، 665، 666، 667، 668، 669، 670، 671، 672، 673، 674، 675، 676، 677، 678، 679، 680، 681، 682، 683، 684، 685، 686، 687، 688، 689، 690، 691، 692، 693، 694، 695، 696، 697، 698، 699، 700، 701، 702، 703، 704، 705، 706، 707، 708، 709، 710، 711، 712، 713، 714، 715، 716، 717، 718، 719، 720، 721، 722، 723، 724، 725، 726، 727، 728، 729، 730، 731، 732، 733، 734، 735، 736، 737، 738، 739، 740، 741، 742، 743، 744، 745، 746، 747، 748، 749، 750، 751، 752، 753، 754، 755، 756، 757، 758، 759، 760، 761، 762، 763، 764، 765، 766، 767، 768، 769، 770، 771، 772، 773، 774، 775، 776، 777، 778، 779، 780، 781، 782، 783، 784، 785، 786، 787، 788، 789، 790، 791، 792، 793، 794، 795، 796، 797، 798، 799، 800، 801، 802، 803، 804، 805، 806، 807، 808، 809، 810، 811، 812، 813، 814، 815، 816، 817، 818، 819، 820، 821، 822، 823، 824، 825، 826، 827، 828، 829، 830، 831، 832، 833، 834، 835، 836، 837، 838، 839، 840، 841، 842، 843، 844، 845، 846، 847، 848، 849، 850، 851، 852، 853، 854، 855، 856، 857، 858، 859، 860، 861، 862، 863، 864، 865، 866، 867، 868، 869، 870، 871، 872، 873، 874، 875، 876، 877، 878، 879، 880، 881، 882، 883، 884، 885، 886، 887، 888، 889، 890، 891، 892، 893، 894، 895، 896، 897، 898، 899، 900، 901، 902، 903، 904، 905، 906، 907، 908، 909، 910، 911، 912، 913، 914، 915، 916، 917، 918، 919، 920، 921، 922، 923، 924، 925، 926، 927، 928، 929، 930، 931، 932، 933، 934، 935، 936، 937، 938، 939، 940، 941، 942، 943، 944، 945، 946، 947، 948، 949، 950، 951، 952، 953، 954، 955، 956، 957، 958، 959، 960، 961، 962، 963، 964، 965، 966، 967، 968، 969، 970، 971، 972، 973، 974، 975، 976، 977، 978، 979، 980، 981، 982، 983، 984، 985، 986، 987، 988، 989، 990، 991، 992، 993، 994، 995، 996، 997، 998، 999، 1000

3- سیاسی جماعتوں کا اس (میں) مطلق ذکر نہ (ہونا) بھی کسی خطرے سے خالی نہیں۔

لغات میں سے کچھ وقت خصوصی راہنمائی کے لیے ضرور وقت فرمائیں۔ (طالب اصلاح و خیر: طارق محمود، مسیّد آؤزوزینہ، جلم)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

م السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

یہ کوئی شک نہیں کہ قرآن اور صحیح حدیث سے اور قرآن و حدیث سے اجماع امت کا حجت ہونا ثابت ہے لہذا شرحہ میں ہیں:

1- قرآن مجید

2- احادیث صحیحہ و حسنہ لہذا تمام فرمودہ

3- اجماع امت

لیل المؤمنین والی آیت کریمہ اور دیگر دلائل سے درج ذیل دو اہم اصول بھی ثابت ہیں:

1- کتاب و سنت کا صرف وہی مضمون معتبر ہے جو سلف صالحین (مثلاً صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین، تابعین رحمۃ اللہ علیہ، تابعین رحمۃ اللہ علیہ، صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہ، علمائے دین اور صحیح العقیدہ شارحین حدیث) سے منفقہ یا بغیر اختلاف کے ثابت ہے۔

3- اجتہاد، مثلاً آثار سلف صالحین سے استدلال۔

بعد سیدنا حفص بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث:

بِأَسْمَاءِ بْنِ سَلَمَةَ وَأَنَا مَعَهُمْ

کی جماعت اور ان کے امام گلا تھم چکے ہیں عرض ہے کہ جماعت المسلمین سے مراد خلافت المسلمین اور ابانہ منعم سے مراد تطہیرتیم (یعنی تخلید) ہے۔ اس تشریح کی دو دلیلیں درج ذیل ہیں:

زبلا:

تجدید لؤنیزہ تخلیۃ فاہزب حتی موت.....

رقم ان ایام میں کوئی تخلیۃ نہ پاؤ تو بیجاگ جاؤ حتی کہ مر جاؤ"

(وضوہ بنی سلا و سبلا 474، 475، 476، 477، 478، 479، 480، 481، 482، 483، 484، 485، 486، 487، 488، 489، 490، 491، 492، 493، 494، 495، 496، 497، 498، 499، 500، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 507، 508، 509، 510، 511، 512، 513، 514، 515، 516، 517، 518، 519، 520، 521، 522، 523، 524، 525، 526، 527، 528، 529، 530، 531، 532، 533، 534، 535، 536، 537، 538، 539، 540، 541، 542، 543، 544، 545، 546، 547، 548، 549، 550، 551، 552، 553، 554، 555، 556، 557، 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، 567، 568، 569، 570، 571، 572، 573، 574، 575، 576، 577، 578، 579، 580، 581، 582، 583، 584، 585، 586، 587، 588، 589، 590، 591، 592، 593، 594، 595، 596، 597، 598، 599، 600، 601، 602، 603، 604، 605، 606، 607، 608، 609، 610، 611، 612، 613، 614، 615، 616، 617، 618، 619، 620، 621، 622، 623، 624، 625، 626، 627، 628، 629، 630، 631، 632، 633، 634، 635، 636، 637، 638، 639، 640، 641، 642، 643، 644، 645، 646، 647، 648، 649، 650، 651، 652، 653، 654، 655، 656، 657، 658، 659، 660، 661، 662، 663، 664، 665، 666، 667، 668، 669، 670، 671، 672، 673، 674، 675، 676، 677، 678، 679، 680، 681، 682، 683، 684، 685، 686، 687، 688، 689، 690، 691، 692، 693، 694، 695، 696، 697، 698، 699، 700، 701، 702، 703، 704، 705، 706، 707، 708، 709، 710، 711، 712، 713، 714، 715، 716، 717، 718، 719، 720، 721، 722، 723، 724، 725، 726، 727، 728، 729، 730، 731، 732، 733، 734، 735، 736، 737، 738، 739، 740، 741، 742، 743، 744، 745، 746، 747، 748، 749، 750، 751، 752، 753، 754، 755، 756، 757، 758، 759، 760، 761، 762، 763، 764، 765، 766، 767، 768، 769، 770، 771، 772، 773، 774، 775، 776، 777، 778، 779، 780، 781، 782، 783، 784، 785، 786، 787، 788، 789، 790، 791، 792، 793، 794، 795، 796، 797، 798، 799، 800، 801، 802، 803، 804، 805، 806، 807، 808، 809، 810، 811، 812، 813، 814، 815، 816، 817، 818، 819، 820، 821، 822، 823، 824، 825، 826، 827، 828، 829، 830، 831، 832، 833، 834، 835، 836، 837، 838، 839، 840، 841، 842، 843، 844، 845، 846، 847، 848، 849، 850، 851، 852، 853، 854، 855، 856، 857، 858، 859، 860، 861، 862، 863، 864، 865، 866، 867، 868، 869، 870، 871، 872، 873، 874، 875، 876، 877، 878، 879، 880، 881، 882، 883، 884، 885، 886، 887، 888، 889، 890، 891، 892، 893، 894، 895، 896، 897، 898، 899، 900، 901، 902، 903، 904، 905، 906، 907، 908، 909، 910، 911، 912، 913، 914، 915، 916، 917، 918، 919، 920، 921، 922، 923، 924، 925، 926، 927، 928، 929، 930، 931، 932، 933، 934، 935، 936، 937، 938، 939، 940، 941، 942، 943، 944، 945، 946، 947، 948، 949، 950، 951، 952، 953، 954، 955، 956، 957، 958، 959، 960، 961، 962، 963، 964، 965، 966، 967، 968، 969، 970، 971، 972، 973، 974، 975، 976، 977، 978، 979، 980، 981، 982، 983، 984، 985، 986، 987، 988، 989، 990، 991، 992، 993، 994، 995، 996، 997، 998، 999، 1000

حدیث کے راویوں کی مختصر توہین درج ذیل ہے:

علی:

جمہ اللہ علیہ، حاکم رحمہ اللہ علیہ، ابو حموانہ رحمہ اللہ علیہ، اور ذہبی رحمہ اللہ علیہ نے ثقہ و صحیح الحدیث قرار دیا ہے، لہذا اس زبردست توشیح کے بعد انہیں مجہول یا مستور کہنا غلط ہے۔

2- صحریں بدر العلی رحمہ اللہ علیہ :-

انہیں ابن جان اور ابو حموانہ نے ثقہ و صحیح الحدیث قرار دیا ہے، اس توشیح کے بعد شیخ ابانی رحمہ اللہ علیہ کا انہیں مجہول قرار دینا غلط ہے۔

3- ابوالتیاخ زید بن سعید رحمہ اللہ علیہ :-

صحیحین و سنن اربعہ کے راوی اور ثقہ ثبت تھے۔

4- عبدالوارث بن سعید رحمہ اللہ علیہ :-

صحیحین و سنن اربعہ کے راوی اور ثقہ ثبت تھے۔

5- مسدو بن مسدد رحمہ اللہ علیہ :-

صحیح بخاری وغیرہ کے راوی اور ثقہ حافظ تھے۔

د: 4244 و صحیح احکام 4/432-433 و واقعہ الذہبی

ا حسن روایت سے ثابت ہوا کہ سیدنا حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں امام سے مراد خلیفہ ہے یا درجہ کہ حدیث حدیث کی تشریح کرتی ہے۔

2- حافظ ابن حجر العسقلانی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بناؤی: أئمتنا إمامنا في الأراض خليفه فحكيت بالذوق والفكر على شكل شدة الزمان، وعرض أصل الشريعة في عين مكة في أئمتنا

بناؤی: أئمتنا إمامنا في الأراض خليفه فحكيت بالذوق والفكر على شكل شدة الزمان، وعرض أصل الشريعة في عين مكة في أئمتنا

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے محمد بن جریر بن زید الطبری رحمہ اللہ علیہ (متوفی 304ھ) سے:

طبری: والصواب أن المراد من أئمتنا إمامنا في الأراض خليفه فحكيت بالذوق والفكر على شكل شدة الزمان، وعرض أصل الشريعة في عين مكة في أئمتنا

"اور صحیح ہے کہ اس (اس حدیث سے مراد اس جماعت کو لازم پکڑنا ہے جو اس (امام) کی امارت پر جمع ہوتے ہیں، جس نے اپنی بیعت توڑ دی وہ جماعت سے خارج ہو گیا۔ فرمایا: اور حدیث میں (یہ بھی) ہے کہ اگر لوگوں کا امام (امیر بالایمان) نہ ہو اور لوگوں نے پارٹیاں بنا رکھی ہوں تو دور اختلاف میں

نہ 449:

ا: في تخير جماعة أئمتنا، في ووجب لزوم جماعة أئمتنا المسلمين وترك الخروج على أئمتنا

"اور اس (حدیث) میں جماعت فقہاء کی دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا چاہیے اور ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے۔ (شرح صحیح بخاری لابن بظال 10/36)

ا: حجر رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ایک ٹکڑے کی تشریح میں فرمایا:

ما يذعن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم ولو عصوا

ن 13/36

ا: حجر طبری، قاضی بضاوی، ابن بظال اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ کی ان تشریحات (فہم سلف صحابین) سے ثابت ہوا کہ (بناؤی: أئمتنا إمامنا في الأراض خليفه فحكيت بالذوق والفكر على شكل شدة الزمان، وعرض أصل الشريعة في عين مكة في أئمتنا)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ:

ت وليس لئاممات يذعن بالية".

ا: فوت ہونے اور اس کا امام (خلیفہ) نہ ہو تو وہ باطلیت کی موت مرتا ہے۔"

(صحیح ابن جان 4/434 و حدیث حسن)

ن: 2011 تحقیقی مقالات 4031

اس تشریح سے بھی یہی ثابت ہے کہ "اباؤئمتنا" سے مراد وہ خلیفہ (امام) ہے، جس کی خلافت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہو اور اگر کسی پر پہلے سے ہی اختلاف ہو تو وہ اس حدیث میں مراد نہیں ہے لہذا فرقہ مسعودیہ جماعت المسلمین رجسٹرڈ کا اس حدیث سے اپنی خود ساختہ و نوزامہ "فرقی" مراد لینا غلط، باطل

ہے، پوچھیں کہ کیا کسی ثقہ و صدوق امام محدث، شارح یا عالم نے زمانہ خیر القرون، زمانہ ترمذیوں حدیث اور زمانہ شارحین حدیث (پہلی صدی سے نویں صدی ہجری تک) میں اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ جماعت المسلمین سے خلافت مراد نہیں اور نا ائمتنا سے خلیفہ مراد نہیں بلکہ کاغذی رجسٹرڈ جماعت اور

هذا ما عندني والله أعلم بالصواب

فتاویٰ علمیہ

جلد 3- توحید و سنت کے مسائل- صفحہ 22

محدث فتویٰ